

برائے فوری اجراء

اسپرنگ ڈیل برانچ لائبریری نے اونٹاریو میں حسن کارکردگی کا ایوارڈ جیت لیا

برامپٹن، آن (11 جولائی 2019) – سٹی آف برامپٹن اور برامپٹن لائبریری اس بات کا اعلان کرنے کے لیے بہت پرجوش محسوس کر رہے ہیں کہ اسپرنگ ڈیل برانچ لائبریری نے اونٹاریو لائبریری ایسوسی ایشن (OLA) نیو لائبریری بلڈنگ ایوارڈ جیت لیا ہے۔

2019 ایوارڈ کے وصول کنندگان، بشمول اسپرنگ ڈیل برانچ لائبریری، کو گزشتہ روز، بروز بدھ مورخہ 10 جولائی کو اوٹاوا، اونٹاریو میں اینوئل انسٹیٹیوٹ آن دی لائبریری ایز پلیس کانفرنس پر اس اعزاز نوازا گیا۔ OLA لائبریری بلڈنگ ایوارڈ ہر تین سال کے بعد اونٹاریو میں لائبریری کی نئی عمارتوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔

اسپرنگ ڈیل برانچ لائبریری میں 25,000 مربع فٹ رقبے پر مشتمل ہے، بشمول پروگراموں کے لیے جگہ، خاموش مطالعہ، پُر تعامل سرگرمیاں اور ایک پُر تصور آسمان کی روشنی والی بچوں کی خوبصورت جگہ، جن سب پر سبز چھت، گرے واٹر سسٹم، جیو تھرمل ہیٹنگ اور کولنگ اور دیگر خصوصیات موجود ہیں، جو مل کر اس برانچ کو LEED گولڈ سرٹیفیکیشن کے لیے امیدوار بناتی ہیں۔

برامپٹن لائبریری کی سی ای او ربیکا ریون کا کہنا ہے کہ "ہماری اسپرنگ ڈیل برانچ کاپیلاٹ ہے، جو عوامی لائبریریوں کی جگہ کے متعلق لوگوں کے نظریات کو بدلتی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "اس اچھی طرح قائم علاقے میں رابطے پیدا کرنے کے نظریے کا نتیجہ اس عمارت کے شاندار ڈیزائن کی صورت میں نکلا۔ ہم چاہتے تھے کہ عوام یہاں تشریف لائیں اور انہوں نے زبردست دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ 1000 سے زائد لوگ روزانہ ہماری اسپرنگ ڈیل برانچ کو استعمال کرتے ہیں۔"

رونٹھ ویٹ ڈک اینڈ بیڈلے (RDH) آرکیٹیکٹس آئی این سی کی جانب سے تیار کردہ اس کا ڈیزائن کارکردگی اور جمالیاتی اعتبار سے بہترین ہے۔ اس کی کھڑکیاں ایک سولر سپانسو سیرامک فرٹ سے بنی ہیں جو کسی کتاب کے صفحات سے ملتی جلتی ہے اور چمک اور حرارت کے جذب ہونے کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ RDH نے لائبریری کے باہر چار ایکڑ پر مشتمل سبزہ زار کا ڈیزائن بھی بنایا، جس نے بہترین ڈیزائن کی وجہ سے 2015 میں کینیڈین آرکیٹیکچر ایوارڈ بھی جیتا۔

سٹی آف برامپٹن نے حالیہ طور پر اسپرنگ ڈیل برانچ لائبریری کے ساتھ کوماگاتا مارو پارک کھولا۔ یہ پارک ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، جو SS کوماگاتا مارو بحری جہاز پر تھے اور ان تمام تارکین وطن اور ان کی مشکلات، فتوحات اور کینیڈا کی متنوع کمیونٹی میں کردار کو اعزاز پیش کرتا ہے۔ اس پارک کو "پارک میں لائبریری" کے تصور کے مطابق بنایا گیا ہے، جس میں کھیل کے میدان کی اشیا مثلاً سلائیڈز اور کلیمرز، مل کر لفظ IMAGINE بناتے ہیں۔

مینئر پیٹرک براؤن کا کہنا ہے کہ "برامپٹن ایک سر سبز شہر ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "ہم عمارتوں کو ایسے ڈیزائن میں اور ایسے طریقے سے تعمیر کرنے کو ترجیح بناتے ہیں، جس سے خوبصورتی، فعالیت اور ماحول کے حوالے سے ذمہ داری کا ایک اعلیٰ معیار قائم ہو۔ اسپرنگ ڈیل برانچ لائبریری ان ترجیحات کی مجسم ہے اور کوماگاتا مارو پارک کے ساتھ، یہ ایک اہم کمیونٹی ہب بھی بن گئی ہے۔ ہمیں اس غیر معمولی سہولت گاہ کے لیے OLA کی جانب سے اعزاز دیے جانے پر فخر ہے۔"

برامپٹن لائبریری کے متعلق مزید معلومات کے لیے www.bramptonlibrary.ca ملاحظہ فرمائیں۔ کوماگاٹا مارو پارک کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا

کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

برامپٹن لائبریری کی تمام شاخیں ہفتے کے سات دن صبح 10:00 بجے سے عوام الناس کے لیے کھلی رہتی ہیں۔ اپنے مفت لائبریری کارڈ کے ساتھ، اراکین مفت تحریری اور ڈیجیٹل مواد کو ادھار لے سکتے ہیں، مفت ای بکس، ای آڈیو بکس، ای میگزینز اور ای نیوز پیپرز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں؛ مفت موزیک اور موسیقی اسٹریم کر سکتے ہیں، ہمارے مارکر سپیسز اور بہترین آڈیو اسٹوڈیو ریکارڈنگ اسٹوڈیو تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، مفت پروگراموں میں شرکت کر سکتے ہیں اور کسی بھی شاخ پر اٹھانے کے لیے چیزوں کو مختص کروا سکتے ہیں۔ انہیں www.bramptonlibrary.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca